

ہیں اور زیادہ صحیح ہیں۔ اس لیے کبھی کبھار بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنا بھی ممنوع نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام اور صحابہؓ کے تعامل کے عین مطابق ہے۔ اکثر نہ پڑھیں گلی کبھی پڑھ لیا کریں۔ رہا جہاں اس سنت کا احیاء مقصود ہوتا کہ عوام پر واضح ہو جائے کہ یہ بھی سنت ہے۔ وہاں حسبِ حال جہر سے پڑھتے پینے میں دوہرا اجر ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

بسم اللہ کا دائرہ محدود نہ رکھیے! زندگی کے ہر کام کے آغاز میں اس کی تلاوت مسنون ہے۔ اگر آپ اس کا التزام کر لیں تو یقین کیجیے! بہت سے ناجائز کام اور بد مشاغل چھوٹ جائیں گے۔ آزما کر دیکھ لیجیے! جو کام زیادہ نتیجہ خیز ہیں ان کی طرف آپ توجہ نہیں دیتے۔ بہر حال نزاع برائے فرقہ واریت کا رخیہ نہیں ہے بلکہ فی سبیل اللہ فساد کی ایک شکل بن رہی ہے۔ کاش مسلمان کو فرقہ واریت سے ہٹ کر سنتِ رسول کی تحقیق کا ذوق اور اس پر عمل کرنے کا شوق ہو۔

(۲)

ا: بعض جگہ اذان کی آواز کے ساتھ ایک یا کئی کتے رونایا دیسی ہی آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔
 ب: ایک قصبہ میں سات اذانیں ہوتی ہیں مگر کسی ایک مؤذن کی اذان کے ساتھ ہی کتا بولتا ہے
 دوسروں کی اذان کے ساتھ نہیں بولتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آیا یہ قصور کتے کا ہے یا مؤذن کی خامی ظاہر ہوتی ہے۔ نیز ایسے کتے یا مؤذن کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ (شیخ عبداللطیف سیالکوٹی)
 الجواب: بس یہ اتفاقات ہیں۔ ویسے بھی کتے کی یہ عادت ہے کہ: ان کے کان میں کبھی اونچی آواز پڑے تو بسا اوقات وہ بول پڑتا ہے اور آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فضائوں میں وہ وہ چیزیں ان کو نظر آتی ہوں جو ہمیں نظر نہیں آسکتیں جن کی وجہ سے وہ بھونکنے یا آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہوں۔

حدیث میں آتا ہے کہ: جب اذان ہوتی ہے تو سنتے ہی وہ بدحواس ہو کر بھاگتا ہے:

إِذَا نُوذِيَ لِلصَّلَاةِ أَذْبَبَ الشَّيْطَانُ (صحیح بخاری و مسلم)

ہو سکتا ہے کہ اس پر ان کی نظر پڑ جاتی ہو تو وہ بھونکنے شروع کر دیتا ہو۔ جیسا کہ مرغ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ کو اور گدھا شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے۔ بہر حال یہ بات ڈر یا خوف والی نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کسی وہم کو کشید کرنا چاہیے!